دو انمول خزانے

تالیف

حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی

دوانمول خزانے

تالیف

حکیم محمد طارق محمود عبقری مجذوبی چغتائی
(گولڈ میڈلسٹ پاکستان)

فرید بکڈپو (پرائیویٹ) لمٹیڈ
FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.
New Delhi - 110002

دوانمول خزانے

تالیف: حکیم محمد طارق محمود عبقری مجذوبی چغتائی

باہتمام: (الحاج) محمد ناصر خاں

Do Anmol Khazane

Author:
Hakeem Muhammad Tariq Mahmood Abqari Majzoobi Chughtai

Edition: **2014**

Pages: **80**

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمٹیڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off : 2158, M.P. Street, Pataudi House, DaryaGanj, New Delhi-2
Phone : (011) 23289786, 23289159 Fax : +91-11-23279998
E-mail : faridexport@gmail.com - Website : www.faridexport.com

ان وظائف کے کارگر ہونے کی چند شرائط

یہ ہیں:

☆ یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کردیتا ہے۔

☆ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجّہی سے پڑھی جانے والی دُعائیں ہوا میں گم ہوجاتی ہیں۔

☆ رزقِ حلال کا اہتمام کریں، حرام غذا عمل کے اثر کو ختم کردیتی ہے۔

☆ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔

☆ فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر

فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔

☆ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب بھی عمل کارگر نہیں ہوتا۔

☆ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔

☆ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔

☆ عاجزی اور آہ وزاری کے ساتھ عمل کریں۔

☆ عمل خالص کریں پرکھنے والا دانا ہے۔

☆ استحضار کے ساتھ پڑھیں۔

دو انمول خزانے

قارئین! قرآن پاک کی پانچ آیات اور ایک دعا، کل چھ چیزیں ایسے غیبی روحانی اثرات رکھتی ہیں جن کا اظہار مندرجہ ذیل تجربات، مشاہدات اور واقعات سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی اجازت عاجز کو بعض اہل اللہ سے ملی ہوئی ہے۔ بندہ اور ان کی طرف سے ہر پڑھنے والے کو عام اجازت ہے۔

آج کے اس مشینی دور میں جہاں ہر طرف افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اپنے معاملات کو سلجھانے میں کوشاں وسرگرداں ہے اور دوسری طرف اگر کسی کے معاملات مالی طور پر سلجھے ہوئے ہوں یا زمانے سے قدرے بہتر ہوں تو کوئی بھی اس نعمت کو برداشت نہیں

کرتا۔ حسد، کینہ، بغض اور عناد حتیٰ کہ جادو کے ذریعے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ زیرِ نظر چھ انمول وظائف یعنی پانچ آیاتِ قرآنی اور ایک دُعا کا مجموعہ اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو مندرجہ ذیل فضائل وفوائد حاصل ہوں گے۔

واضح رہے کہ جتنا اَدب واحترام اور اہتمام اس کے پڑھنے میں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی توجہ اور دھیان سے اس کو پڑھا جائے گا اتنے زیادہ فضائل وفوائد حاصل ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندہ کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ لہٰذا جتنا کامل، اکمل اور مکمل یقین اور گمان اللہ جل شانہٗ کی ذات پر ہوگا اتنے زیادہ فوائد وفضائل حاصل ہوں گے۔

پہلے خزانے کے فضائل اور فوائد

مندرجہ ذیل چھ آیات کو پہلے درود شریف پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، وہ آیات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) سورہ فاتحہ (پارہ نمبر۱)

(۲) آیت الکرسی (پارہ نمبر۳ سورہ بقرہ آیت ۲۵۵ تا ۲۵۷)

(۳) شَهِدَ اللّٰهُ سے الْحِسَابِ تک

(پارہ نمبر۳ سورہ آل عمران آیت ۱۸۔اور۔۱۹)

(۴) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ سے حِسَابٍ تک

(پارہ نمبر۳ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۶ اور ۲۷)

(۵) لَقَدْ جَآءَكُمْ سے آخر تک

(پارہ نمبر۱۱ سورۃ توبہ آیت، ۱۲۸، ۱۲۹)

(۶) دعائے ابودرداء (کتاب الاسماء والصفات للبیھقی صفحہ نمبر ۱۲۵۔ بحوالہ حیاۃ الصحابہ (عربی) جلد۳ صفحہ۸۹)

(نوٹ:۔ یہ تمام آیات صفحہ نمبر ۳۱ تا ۳۶ پر لکھ دی گئی ہیں)

لَقَدْ جَآءَکُمْ کی فضیلت

علامہ سخاویؒ ابوبکر بن محمدؒ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر بن مجاہدؒ کے پاس تھا کہ اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلیؒ آئے ان کو دیکھ کر ابوبکر بن مجاہدؒ کھڑے ہوگئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سِردار آپ شبلیؒ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں حالانکہ آپ اور سارے علمائے بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب سنایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور

ﷺ کی خدمت میں شبلیؒ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس ﷺ
کھڑے ہوگئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میرے
استفسار پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد:
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ آخر سورۃ تک
پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز
پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیتِ شریفہ لَقَدْ جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ آخر تک پڑھتا ہے۔

ابوبکرؒ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلیؒ
آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود
پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی بتایا۔ ایک اور صاحب سے
اسی نوع کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔

ابوالقاسم خصافؒ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت

شبلیؒ ابوبکر بن مجاہدؒ کی مسجد میں گئے۔ ابوبکرؒ ان کو دیکھ کر
کھڑے ہوگئے۔ ابوبکر کے شاگردوں میں اس کا چرچہ
ہوا۔ انہوں نے استاد سے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں
وزیر اعظم آئے ان کے لئے تو آپ کھڑے ہوئے نہیں،
شبلیؒ کے لئے آپ کھڑے ہوگئے۔ انہوں نے فرمایا کہ
میں ایسے شخص کے لئے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم حضور
اقدس ﷺ خود کرتے ہیں اس کے بعد اُستاد نے اپنا ایک
خواب بیان کیا اور یہ کہا کہ رات میں نے حضور اقدس ﷺ
کی خواب میں زیارت کی تھی۔ حضور ﷺ نے خواب میں
ارشاد فرمایا تھا کہ کل کو تیرے پاس جنتی شخص آئے گا۔ جب
وہ آئے تو اس کا احترام کرنا۔ ابوبکرؒ کہتے ہیں کہ اس واقعہ
کے دو ایک دن کے بعد پھر حضور ﷺ کی خواب میں

زیارت ہوئی۔ حضور اقدس ﷺ نے خواب میں ارشاد فرمایا: ''اے ابوبکر! اللہ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کیا'': یارسول اللہ ﷺ! شبلیؒ کا یہ اعزاز آپ ﷺ کے ہاں کس وجہ سے ہے؟ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانچوں نمازوں کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے۔ لَقَدْ جَآءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ (الآیة) اور اسی (۸۰) برس سے اس کا یہ معمول ہے۔ (بحوالہ فضائل درود شریف بحوالہ قول بدیع)

ایسے لوگ جو رزق کی تنگی، پریشانی اور بے روزگاری کا شکار تھے جب انہوں نے چھ چیزوں کا اہتمام کیا اور ہر فرض نماز کے بعد کامل یقین سے پڑھا تو حیرت انگیز فوائد رونما ہوئے۔

☆ ایک شخص لاہور، شیخوپورہ روڈ کی ایک مل میں کام کرتے تھے، بہت اچھے عہدہ پر تھے، مل مالکان سے کسی بات پر ان بن ہوگئی اور انہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ موصوف کچھ عرصہ تو جمع پونجی پر گزارہ کرتے رہے۔ لیکن آخر کب تک؟ سارا سرمایہ ختم ہوگیا، معاملہ اُدھار پر آگیا لوگوں سے اُدھار لے کر اپنا گزارہ چلانے لگے۔ آخر کار لوگوں نے اُدھار دینا بھی بند کردیا اسی دوران نوکری کے لئے کوشش بھی کرتے رہے لیکن ہر جگہ ناکام۔ آخر کار لاہور میں انہیں یہ چیزیں پڑھنے کو بتائیں گئیں موصوف چونکہ پریشان تھے۔ انہوں نے اہتمام سے یہ چھ چیزیں پڑھنا شروع کردیں۔ شان کریمی نے کرم فرمایا اور دن پھر گئے۔ آج وہی شخص پھر سے اچھی

زندگی اور خوشحال ایام بسر کر رہا ہے۔

☆ ایک پولیس آفیسر رشوت لینے کے جُرم میں معطّل ہوگئے۔ موصوف نے بحالی کی بہت کوشش کی لیکن بڑے افسر چونکہ عرصہ دراز سے ناراض تھے اس لیے اس کا کام نہ ہوا۔ ایک صاحب کے ذریعہ سے اس پولیس آفیسر نے ملاقات کی۔ بے چارہ بہت پریشان اور پشیمان تھا دوست احباب ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ مزاج میں سادگی اور تواضع آگئی تھی۔ اس سے رزق حلال کا وعدہ لے کر ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ چھ چیزیں پڑھنے کو عرض کیں چند ماہ بعد موصوف ملے۔ نوکری بحال ہوگئی اور وہ مطمئن تھے۔

☆ ایک جوان بہت عرصہ پہلے امریکہ میں مقیم تھے۔ حتیٰ کہ گرین کارڈ ہولڈر تھے۔ کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ

حکومت کی طرف سے گرین کارڈ ضبط اور نوکری بھی ختم کردی گئی۔ کچھ عرصہ تو امریکہ میں رہے پھر پاکستان آگئے۔ موصوف مردان کے رہنے والے تھے چونکہ امریکہ کے ڈالر کے سامنے پاکستانی روپے کی حیثیت نہیں ہے اور ان کی نظر میں بھی نہیں تھی۔ لہٰذا پاکستان میں دو کاروبار کیے۔ لیکن ناکامی۔ حتیٰ کہ لاکھوں ڈوب گئے، جب ان سے یہ چھ چیزیں پڑھنے کو عرض کیں تو کچھ عرصہ متواتر پڑھنے کے بعد ملے اور بتانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ مسئلہ حل کردیا ہے اور میں مطمئن ہوں۔

☆ ایک صاحب ٹرانسپورٹر تھے۔ تین ویگنیں کرائے پر چلاتے تھے قدرت خدا کی، پے در پے دو ویگنوں کا ایکسیڈنٹ ہوگیا۔ ایک ویگن گھر کے اخراجات

اورملازمین کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ناکافی تھی، آخراس ایک ویگن کوفروخت کرکے دوویگنوں کی مرمت کرائی لیکن معاملہ روز بروز بحران کی طرف گامزن تھا، حتیٰ کہ ان دوویگنوں کی مرمت بھی نہ کراسکے اور وہ ادھوری رہ گئیں ۔ٹرانسپورٹر روز بروز قرضے کے بوجھ تلے دبتا گیا، بہت ادھرادھر گھومے لیکن مرض بڑھتا گیاجُوں جُوں دوا کی ،آخرکار جب اسے یہ وظیفہ یعنی چھ چیزیں عاجز نے عرض کیں اوراس نے باقاعدگی سے توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کیں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پریشانی کوختم کرنا شروع کردیا۔

☆عاجز کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو عرصہ دراز سے بے روزگار تھانو بچوں کابوجھ اکیلے سر پر تھا،

غلطی یہ ہوئی کہ غریب تو تھاہی دوبیگھے زمین تھی اس سے کچھ گزارہ ہورہا تھاکسی نے مشورہ دیا کہ اس کوفروخت کرکے اچھا کاروبار کرلے، سوئے قسمت اس نے ایسا کرلیاچونکہ کاروبار کا تجربہ تھانہیں اس لئے اس نے ایک پارٹنر تجربہ کارساتھ رکھا۔لیکن پارٹنر نے دھوکہ دیااور یوں کاروبارفیل ہوگیا،موصوف بہت پریشان تھے عاجز نے چھ چیزیں پڑھنے کوعرض کیں مستقل اور دائمی پڑھنے کو بتائیں موصوف نے ان کو باقاعدگی سے پڑھا،اس شخص پر جس انداز سے کریم کا کرم ہوامیں خودحیران ہوا۔اس بے روز گاری کے عالم میں جہاں ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ رشوت اورسفارش کا بازارگرم ہے، ایسے دور میں جب بھی میں نے ایسے جوانوں کودوانمول خزانے پڑھنے کوعرض کیے،

حیرت انگیز طور پر غیبی اسباب پیدا ہوئے اور شانِ کریمی نے کرم کی انتہا کردی۔

ایک جوان کوئٹہ میں ملا، درس کے بعد اس نے اپنی بپتا سنائی کہنے لگا، "والد صاحب محکمہ نہر میں چپراسی تھے جو کہ گذشتہ دو سالوں سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ہم دو بھائی اور تین بہنیں ہیں، سب سے بڑا میں ہوں، غربت کے عالم میں والد صاحب نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی میں ایم۔ ایس سی فزکس ہوں، والد صاحب کی نوکری کے ختم ہو جانے کی وجہ سے گھر کے حالات بہت تنگ دستی کا شکار ہیں۔ میں نے ملازمت کی بہت کوشش کی، ایک دو جگہ ملازمت بھی ملی لیکن نا قابلِ گزارہ، چھوٹے بہن بھائی زیرِ تعلیم ہیں، صرف والد صاحب کی پنشن گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے

نا کافی ہے۔" بندہ نے اپنی مذکورہ چھ چیزیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کو عرض کیں اور اُٹھتے بیٹھتے انتہائی کثرت سے انمول خزانہ نمبر۲ (جو کہ آگے آرہا ہے) پڑھنے کو عرض کیا، تقریباً ایک سال کے بعد اس نوجوان کا خط ملا کہ ایک جگہ پرائیویٹ اچھی ملازمت مل گئی ہے اور گھر کا گزارہ اچھا شروع ہو گیا ہے۔

☆ایک ڈاکٹر صاحب نے شکایت کی کہ پہلے تو انہوں نے کلینک چلایا حالانکہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے اور سمجھدار فزیشن تھے، کلینک بدلا لیکن ہر جگہ ناکامی ہوئی، بندہ نے چھ چیزیں پڑھنے کو عرض کیں اور انمول خزانہ نمبر۲ ہر وقت پڑھنے کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا۔

☆ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں

نے خواب میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کی ہے
جس میں انہوں نے ایک درویش کے کمالات کی تصدیق
کی اور ان چھ چیزوں کو انتہائی توجہ سے پڑھنے کی تاکید کی
اور فرمایا یہ چھ سمندر ہیں جتنا پڑھتے جاؤ گے کمالات کے
موتی پاتے جاؤ گے، ان چھ سمندروں کو پڑھنے کے بعد کبھی
بے یقینی کا شکار نہ ہونا کیونکہ کوئی شخص بھی اگر کمالات اور
مراتب کے درجات کو پہنچنا چاہتا ہے تو ان چھ چیزوں کو کبھی
نہ چھوڑے۔

☆ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ چھ چشمے
ہیں اور ہر چشمہ پر یہی چھ وظائف لکھے ہوئے ہیں اور ہر
وظیفے سے پانی نکل نکل کر آگے ایک نہر بن رہی ہے، میں
اس خواب میں اپنے کو بہت بیمار اور علیل محسوس کر رہا ہوں۔

غیب سے آواز آئی کہ ان چشموں کا پانی پی لو، وہ ملے گا کہ تم
گمان نہیں کر سکتے! وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے عالمِ
خواب میں ان چشموں کا پانی پیا۔ اتنا میٹھا اور لذیذ پانی کہ
میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ مٹھاس
میرے منہ کے ذائقہ میں موجود تھی۔

ایک خاتون نے اپنا خواب لکھا کہ میں عرصہ
گیارہ سال سے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، میں اب تک اس
ضمن میں کئی خواب دیکھ چکی ہوں اس خاتون کا ایک خواب
درج ذیل ہے۔

کہنے لگیں کہ ایک بہت بڑا محل ہے، سفید بالکل
سفید لیکن اس کا کہیں سے دروازہ نہیں ہے، راستہ
ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار میں تھک گئی۔ یکا یک دل

میں خیال آیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد چھ چیزیں پڑھتی ہوں کیوں نہ اس مشکل میں وہ پڑھ لوں، میں نے وہ چھ چیزیں پڑھیں۔ اس کے پڑھتے ہی محل میں چھ راستے بن گئے اور ہر دروازے کے اُوپر کچھ لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے جو دروازہ میرے قریب تھا میں اس دروازے سے گزری، میں نے وہاں پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ یہ ان کلمات کا کمال ہے جو تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی ہے اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔

☆ گجرات کے ایک صاحب نے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ غیروں میں اپنی بیٹی کی شادی کی، نباہ نہ ہوسکا اور ڈیڑھ سال کے بعد طلاق ہوگئی وہ لوگ میرے دشمن بن گئے کئی دفعہ قاتلانہ حملے کئے۔ دراصل مجھے

اور میری مطلقہ بیٹی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے آپ کے بتانے پر یہ چیزیں پڑھنا شروع کر دیں اس دن سے آج تک ان کا ہر وار خطا گیا بلکہ ان پر اُلٹا پڑا۔ ان کا جانی و مالی بہت سا نقصان ہوا حتی کہ پریشان اور پشیمان ہوکر انہوں نے مجھ سے دشمنی خود بخود ختم کرلی۔

☆ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ پہلے میں غریب تھا اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت عطا کی۔ میرے رشتہ دار اور دوست خود بخود میرے دشمن بن گئے، ایک جگہ ایک نیک صالح عامل کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے اپنے حساب کے مطابق بتایا کہ جادو اور تعویذ کئے گئے ہیں، انہوں نے کچھ تعویذ دے دیئے اور پڑھنے کو بتایا میں نے وہ چیزیں پڑھنا شروع کر دیں کچھ افاقہ ہوا،

لیکن مستقل فائدہ نہ ہوا، اس کے بعد میں نے ایک اور عامل کی طرف رجوع کیا لیکن مستقل فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ حاسدوں کے تعویذ اور شر کی وجہ سے میری یادداشت ختم ہوگئی، کاروباری نقصان ہونے لگا گھر میں بدامنی، بدسکونی اور بیماری نے ڈیرے ڈال لئے، آپ کے بتانے پر جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ الحمدللہ! اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی برکت سے مجھ سے تمام اثرات ختم ہوگئے۔

قارئین کرام! ہر قسم کے جادو، تعویذ اور سحر کے لئے یہ وظیفہ اکسیر کامل کا درجہ رکھتا ہے، یقین جانئے میرے چودہ سالہ تجربہ سے اس وظیفہ کے بارے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مریضوں کے ایسے مسائل حل ہوئے جن میں بڑے بڑے

ظالم عاملوں نے اور ساحروں نے ان کی زندگی اجیرن کردی تھی۔

☆ کئی لوگوں نے اپنے تجربات بیان کئے کہ انہیں نظر بد لگتی ہے اور اس نظر بد کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں، عوارضات، نقصان اور تکلیفوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جب سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے نظر بد لگنا ختم ہوگئی، کئی بچوں پہ نظر بد لگنے کی وجہ سے جب اس وظیفہ کو دم کیا گیا تو وہ تندرست ہوگئے، ایف اے کے ایک طالب علم نے شکایت کی کہ اسے نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے تعلیمی بحران میں مبتلا ہوں، جب اسے یہ وظیفہ پڑھنے کو عرض کیا گیا تو اس کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگیا۔

☆ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھے
دشمنی کی وجہ سے سندھ کے مضافات میں دوست بن کر ایسا
کھانا کھلایا جس میں مہلک زہر تھا، جسکا ایک لُقمہ اجل
کا پیغام تھا، میں نے وہ کھانا کھایا اور گاڑی میں بیٹھ کر سفر
شروع کیا، ابھی آدھ گھنٹہ بھی سفر نہیں کیا تھا کہ سر چکرانے لگا
اور متلی شروع ہوگئی میں نے ایک آبادی میں گاڑی کھڑی کی،
مجھے بہت زیادہ قے آئی اور تمام زہریلا کھانا نکل پڑا۔ ساتھ
ہی ایک کمپاؤنڈر نما ڈاکٹر جو پُرانا تجربہ کار تھا دیکھ کر کہنے لگا کہ
صاحب جی آپ کو زہر دیا گیا ہے اور یہ اتنا مہلک زہر ہے کہ
میں نے آج تک کسی آدمی کو بچتے ہوئے نہیں دیکھا، الغرض
مجھے ایک دن تکلیف رہی معمولی سی دوا استعمال کرنے کے بعد
میں بالکل تندرست ہوگیا اور میرا یقین کامل ہے کہ سب کچھ ہر

فرض نماز کے بعد ان چھ چیزوں کے پڑھنے کی برکات کی وجہ
سے ہوا۔

☆ ایک مریضہ خاتون حاضر ہوئیں موصوفہ رونے
لگیں اور بتایا کہ اس کا خاوند اسے چاہتا نہیں، ہر وقت اس سے
لڑتا رہتا ہے اس کے دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں،
بہت تعویذ گنڈے استعمال کر چکی تھیں عاجز نے انہی چھ
چیزیں پڑھنے کو عرض کیں اور ساتھ انمول خزانہ نمبر۲ کا وظیفہ ہر
وقت اُٹھتے بیٹھتے پڑھنے کو کثرت سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی شانِ کریمی سے اس کے مسائل حل کر دیئے اور اس کا گھر
سکون کا گہوارہ بن گیا۔

ایک صاحب کی شادی کو اٹھائیس دن ہوئے
بہت نیک صالح آدمی تھے۔ اس بات پر پریشان تھے کہ دو

ہفتے تو میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہے لیکن تیسرے ہفتے ناچاقی اور رنجش پیدا ہوگئی، حالانکہ بظاہر اس کا کوئی ٹھوس سبب نظر نہیں آرہا تھا، وہ صاحب بہت پریشان تھے، بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی تھی عاجز نے انہیں دونوں وظائف پڑھنے کو عرض کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی برکت سے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے ان چھ چیزوں کو اور خزانہ نمبر۲ کو ایسی لاعلاج بیماریوں میں آزمایا کہ عقل دنگ رہ گئی، ایسے مریض جو مایوس اور لاعلاج ہو چکے تھے جب انہوں نے اس وظیفہ کو توجہ اور دھیان سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے شفاء عطا فرمائی کہ مریض خود حیران رہ گئے۔

☆ ایک مریض لاہور کینسر ہسپتال سے ہڈیوں

کے گودے کے کینسر کا علاج کرا رہا تھا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا عاجز نے انہیں علاج برقرار رکھنے اور ساتھ ہی یہ دو وظائف پڑھنے کا مشورہ دیا، مرض لاعلاج تھا لیکن باعلاج ہوگیا حتیٰ کہ کچھ ہی عرصہ میں شفایاب ہوگیا۔

☆ اس طرح کا ایک اور مریض جس کی یادداشت بالکل ختم ہو چکی تھی اور ڈاکٹروں نے اسے شیزوفرینیا جیسا مُہلک مرض بتایا تھا لیکن اسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے شفاء عطا فرمائی۔

☆ ایک صاحب نے جو کہ بہت بڑے زمین دار تھے، فصل کی تباہی اور کیڑوں کی یلغار کا معاملہ بیان کیا، عاجز نے ادویات کے اسپرے کے ساتھ ساتھ دوا اسپرے ایسے پانی گے کرنے کے بارے میں مشورہ دیا جن پر یہ چھ

چیزیں چالیس چالیس بار اور خزانہ نمبر۲ بھی چالیس بار دم کی گئی ہوں، موصوف نے ایسا ہی کیا، بیماری کے کنڑول میں بہت کامیابی ہوئی فصل بھی حیران کن، حتیٰ کہ اس نے اپنے ایک فارم میں ادویات کی بجائے صرف اس وظیفے کا اسپرے شروع کردیا، یعنی پانی پر دم کر کے اسی اسپرے کو شروع کردیا، ہر ہفتے اس کا اسپرے کیا، واقعی ریکارڈ فصل ہوئی اور لوگ حیران ہوئے لیکن دوستو! معاملہ یقین کا ہے، جتنا یقین اتنا نفع!!!

الغرض قارئین کرام! جتنے بھی فوائد بیان کئے ہیں، یہ ان چودہ سالہ تجربات کا نچوڑ ہیں جو عاجز نے اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے عرض کئے، لوگوں کے تجربات ومشاہدات تو بہت وسیع ہیں، ان چیزوں کی

برکات، ثمرات ختم ہونے کے نہیں۔ عاجز کے پاس اتنے واقعات ہیں کہ علیحدہ مکمل کتاب بن سکتی ہے۔ یہاں تو مختصراً چند واقعات تحریر کئے ہیں۔

☆☆☆

وظائف مندرجہ ذیل ہیں

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۲ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝۳ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝۴

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ
الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ۬ غَيۡرِ
الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ﴿۷﴾

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَىُّ الۡقَيُّوۡمُ ۚ۬
لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِىۡ
يَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ يَعۡلَمُ مَا
بَيۡنَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا
يُحِيۡطُوۡنَ بِشَىۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ

وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ
وَلَا يَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِىُّ
الۡعَظِيۡمُ ﴿۲۵۵﴾ اَلۡبَقَرَة ۲

لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ
مِنَ الۡغَىِّ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ
وَيُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ
الۡوُثۡقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ
عَلِيۡمٌ ﴿۲۵۶﴾ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ۙ
يُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ؕ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾ البقرة ۲
شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ
الْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا ۢ بِالْقِسْطِ ؕ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ
الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ ۢ بَعْدِ

مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ؕ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾ اٰل عمران ۳
قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ
النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَ تَرْزُقُ
مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾ الِ عِمْرٰن ۳
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲۹﴾
التَّوْبَة ۹

مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا نبوی نسخہ

"اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، عَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ،
مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ
يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيْمِ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ، وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
نَفْسِیْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ"

انمول خزانہ نمبر (۲)

یَالَطِیْفاً بِخَلْقِہٖ

یَاعَلِیْماً بِخَلْقِہٖ

یَاخَبِیْراً بِخَلْقِہٖ

اُلْطُفْ بِیْ یَالَطِیْفُ یَاعَلِیْمُ یَاخَبِیْرُ ط

قارئین کرام! یہ ایک وظیفہ ہے جسے اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو پڑھنا چاہئے لیکن بے وضو بھی پڑھا جاسکتا ہے، اس کی تصدیق کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ ملاحظہ فرمائیں:

☆ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ قبض (دل کی تنگی) اور خوف کا شدید غلبہ ہوا، میں پریشان

حال ہو کر بغیر سواری اور توشہ کے مکہ مکرمہ کو چل دیا، تین دن تک اسی طرح بغیر کھائے پیئے چلتا رہا، چوتھے دن مجھے پیاس کی شدت سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا اور جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے سایہ میں ہی بیٹھ جاتا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا: لاؤ ہاتھ بڑھاؤ! میں نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ "خوشخبری دیتا ہوں کہ تم صحیح سالم حج کرو گے اور قبرِ اطہر کی زیارت بھی کرو گے" میں نے کہا "اللہ آپ پر رحم کرے آپ کون ہیں"؟ فرمایا "میں خضرؑ ہوں"۔ عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجئے۔ فرمایا

یہ لفظ تین مرتبہ کہو

یَا لَطِیْفاً بِخَلْقِہٖ یَا عَلِیْماً بِخَلْقِہٖ یَا خَبِیْراً بِخَلْقِہٖ
اُلْطُفْ بِیْ یَا لَطِیْفُ یَا عَلِیْمُ یَا خَبِیْرُ ؕ

"اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے
اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے، ان کی ضروریات سے باخبر
ہے تو مجھ پر لطف و مہربانی فرما۔ اے لطیف! اے علیم! اے
خبیر!" پھر فرمایا کہ یہ ایک تحفہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا
ہے۔ جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت نازل ہو تو
ان کو پڑھ لیا کرو تو تنگی رفع ہو جائے گی اور آفت سے
خلاصی ہو گی، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے مجھے ایک شخص نے "
یا شیخ یا شیخ" کہہ کر آواز دی، میں اس کی آواز سے نیند سے
جاگا تو وہ شخص اونٹنی پر سوار تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایسی

صورت اور حلیے کا نوجوان تو تم نے نہیں دیکھا! کہنے لگا ہمارا
ایک نوجوان سات دن ہو گئے گھر سے چلا گیا، ہمیں یہ خبر ملی
کہ وہ حج کو جا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم
کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا جہاں اللہ لے
جائے۔ اس نے اُونٹنی بٹھائی اور اس سے اتر کر ایک توشہ
دان میں سے دو سفید روٹیاں جن کے درمیان حلوہ تھا
نکالیں اور اونٹ پر سے پانی کا مشکیزہ اُتارا اور مجھے دیا میں
نے پانی پیا اور ایک روٹی کھائی وہی مجھے کافی ہو گئی۔ پھر اس
نے مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ ہم دو رات اور ایک
دن چلے، تو قافلہ ہمیں مل گیا، وہاں اس نے قافلہ والوں
سے اس نوجوان کا حال دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ
میں ہے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر اس کی تلاش میں گیا تھوڑی

دیر کے بعد جوان کو ساتھ لئے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیٹا! اس شخص کی برکت سے اللہ جل شانہٗ نے تیری تلاش مجھ پر آسان کردی، میں ان دونوں کو رخصت کر کے قافلہ کے ساتھ چل دیا، پھر مجھے وہ آدمی ملا اور مجھے ایک لپٹا ہوا کاغذ دیا اور میرے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس میں پانچ اشرفیاں تھیں، میں نے اس میں سے اُونٹ کے لیے کرایہ ادا کیا اور اسی سے کھانے پینے کا انتظام کیا اور حج کیا اور اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اطہر کی زیارت کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر مُبارک کی زیارت کی اور جب کبھی کوئی تنگی یا آفت پیش آئی تو حضرت خضرؑ کی بتائی ہوئی دعا پڑھی، ان کی فضیلت اور

ان کے احسان کا معترف ہوں اور اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر گزار ہوں۔

(بحوالہ روض الریاحین)

ایسے لوگ جو مُسلسل پریشانیوں کا شکار رہے، ہر طرف سے مسائل نے ان کو گھیر رکھا تھا، قدم قدم پر ناکامی ان کا مقدر بن چکی تھی، جب انہوں نے اپنی جملہ پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے اس وظیفہ کو صبح وشام تین ۳۳ر تسبیح اور اٹھتے بیٹھتے انتہائی کثرت سے پڑھا تو حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔

☆☆☆

دو انمول خزانے پڑھنے کے بعد قارئین کے حیرت انگیز مُشاہدات

دو انمول خزانے کی مقبولیت پورے عالم میں پھیل گئی ہے کئی لوگوں نے اس کو بذاتِ خود چھپوا کر تقسیم کیا اور نا معلوم کتنے ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں اور اپنے مسائل اور اُلجھنیں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے حل کرا رہے ہیں۔ تو قارئین کیلئے چند تازہ ترین موصُول ہونے والی تصدیقات تحریر کی جارہی ہیں، اُمید ہے یہ تصدیقات اور مشاہدات ایمان اور عمل میں اضافے کا باعث بنیں گی۔

☆ آرمی کے ایک حاضر ڈیوٹی کرنل بڑی محبت

سے ملے، تعارف کے بعد کہنے لگے کہ مجھے کہیں سے دو انمول خزانے کا کتابچہ ملا، سرسری طور پر میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ یہ کوئی حیرت انگیز چیز ہے، اس کے بعد میں نے تفصیل سے پڑھا اور پھر انمول خزانہ نمبر ۱، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا اور انمول خزانہ نمبر ۲ ہر وقت اُٹھتے بیٹھتے نہایت کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا میں نے محسوس کیا کہ میرے سالہا سال سے اِکٹھے ہوئے کام خود بخود بننا شروع ہو گئے، مشکلات حل ہونا شروع ہو گئیں، میری ایک کار تھی عرصہ سے فروخت نہیں ہو رہی تھی، اس کے گاہک ملنا شروع ہوئے حتیٰ کہ وہ فروخت ہو گئی، میرے بیٹے کو کالج جانے کے لئے موٹر سائیکل کی ضرورت تھی جس مناسب قیمت پر سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل

خریدنا چاہتا تھا، مجھے میری حسب استطاعت بہترین موٹر
سائیکل مل گئی، پھر میں نے دو انمول خزانے مسجد الفلاح
بلڈنگ مال روڈ لاہور سے لیکر آرمی کے دیگر افسروں کو دینا
شروع کردیا، جو بھی ایک دفعہ پڑھتا وہ اس کا گرویدہ
ہوجاتا اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ میں نے بے شمار
کتابچے لیکر آرمی افسران کو پہنچائے ہیں اور بے شمار لوگوں
کے مسائل، مشکلات اور پریشانیاں حل ہوتے ہوئے میں
نے دیکھے ہیں اور اُن لوگوں نے خود بھی بتائے بلکہ اب تو
صورتِ حال یہ ہے کہ بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ دو
انمول خزانے اور لاکردیں جو پہلے آپ نے لاکر دیئے
تھے، وہ یا تو ان کا دوست لے گیا یا ان کی بیوی نے کسی
مشکل زدہ خاتون کو دے دیا اور یوں لوگوں کی مشکلات حل

ہوتی چلی گئیں، کرنل صاحب مزید بتانے لگے کہ میں تو
حیران ہوں کہ لوگ باوجود پریشانی اور مشکل کے اتنے عظیم
وظیفے کو کیوں بھولے ہوئے ہیں، آخر وہ اُٹھتے بیٹھتے چلتے
پھرتے انمول خزانہ نمبر۲ کیوں نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ میرا
اور مجھ جیسے بے شمار لوگوں کا تجربہ ہے کہ جس جس نے
انمول خزانہ نمبر۲، اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نہایت کثرت
سے پڑھا وہ مقصد میں کامیاب ہوا۔ کرنل صاحب نے
اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے ایک خاص بات جو
بتائی وہ یہ کہ جس شخص نے اس وظیفے کو جتنا دھیان اعتماد اور
توجہ سے پڑھا، اس شخص کو اتنا ہی فائدہ ہوا کیوں کہ اس
فائدے کا تعلق، اعتماد سے ہے اور کامل یقین سے ہے اگر
کوئی شخص اس وظیفے کو بے اعتمادی اور بے یقینی سے پڑھتا

ہے تو وہ باوجود پڑھنے کے بھی، نفع نہیں پا سکے گا، اس لیے میری تمام پڑھنے والوں سے گذارش ہے کہ اس وظیفے کو نہایت اعتماد، توجہ اور دھیان سے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے، دھیان کسی اور وظیفے کی طرف ہو یا جس سے جو وظیفہ سُنا وہی پڑھنا شروع کر دیا اور ہر روز نیا وظیفہ یا ایک ہی وقت میں کئی وظیفے، حالانکہ دو انمول خزانے سے مکمل نفع لینے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ خزانہ نمبر۱، ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے اور خزانہ نمبر۲ اُٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے پڑھا جائے، کرنل صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب اس کو دھیان، توجہ اور یکسو ہو کر پڑھا، میں نے دنیا میں جنت کو دیکھ لیا۔

☆ میرے ایک ملنے والے قاری صاحب ایک

دفعہ دورانِ گفتگو بتانے لگے کہ میری بچی کو تکلیف تھی، میں ایک عامل کے پاس اسے لے گیا، اس نے تعویز کے ساتھ یہ دو انمول خزانے بھی دیئے میں حیران ہوا، دو انمول خزانے بھی اس نے چھپوائے ہوئے تھے میں نے اس عامل سے پوچھا کہ آپ حکیم صاحب کو جانتے ہیں؟ وہ عامل کہنے لگا کہ دراصل اُن کے شہر میں میرا بھائی گیا تھا وہ لایا تو میں نے پڑھا اور اپنے مریضوں کو بتانا شروع کر دیا، میں نے محسوس کیا کہ مریضوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، آخر میں نے خود چھپوا کر لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔

میں جب اس عامل سے خود جا کر ملا، تو اس عامل نے بتایا کہ دو انمول خزانے اب تک میں چھ ایڈیشن، جس میں ہر ایڈیشن دو، ڈھائی ہزار سے کم نہ تھا، چھپوا کر لوگوں

میں بانٹ چکا ہوں، اُس عامل نے میرے سوال کرنے پر
بتایا کہ میں اس کے اثرات اور فوائد کا بہت ہی زیادہ
معترف ہوں کیونکہ میں جن لوگوں کو تعویز دیتا ہوں تو ان
کے ساتھ یہ کتابچہ بھی دے دیتا ہوں اور اُن کو ساتھ ہی
پڑھنے کی تاکید بھی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مریض بہت
جلد صحت یاب اور مشکلات بہت جلد حل ہو جاتی ہیں، اس
عامل نے بتایا کہ شریف میڈیکل سٹی ہسپتال (نواز شریف
کا ہسپتال) میں اب تک (۱۰۰) سے زائد کتابچے گئے ہیں
، وہاں مریضوں نے پڑھے اور صحت یاب ہوئے، ایسے
لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے تھے، لیکن اُن کے لئے
مشکلات اور مسائل تھے، قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں جب
انہوں نے انمول خزانہ نمبر ۱ ہر فرض نماز کے بعد اور نمبر

۲ اُٹھتے بیٹھتے نہایت کثرت سے پڑھا تو اُن کی مشکلات
حل ہو گئیں، بیرونِ ملک کا سفر اُن کے لئے نہایت آسان
ہو گیا اور وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔

ایسے طالب علم جو اپنے امتحان میں ناکامی کا شکوہ
لے کر آئے ان کے والدین تعلیمی بے توجہی کا شکوہ کرتے
تھے اور تعلیمی ناکامی ان کا مقدر بن چکی تھی، انہوں نے جب
دو انمول خزانے پڑھے، تو تعلیمی معیار بہتر سے بہتر ہوتا
گیا اور وہ کامیابی کے زینے طے کرتے گئے۔

☆ میرے تجربے میں ایسے گھرانے ہیں جو اپنی
بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ پریشان
تھے، میں نے انہیں دو انمول خزانے پڑھنے کو دیئے، اللہ تعالیٰ
نے اپنے نام کی برکت سے ان کی مشکلات کو آسان کیا اور

مناسب رشتے خزانہ غیب سے عطا کیے۔

☆ میرے تجربے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کاروباری سلسلے میں عرصۂ دراز سے پریشان تھے اور روز بروز ان کی پریشانی بڑھ رہی تھی، مسائل مزید اُلجھ رہے تھے، جب انہوں نے دو انمول خزانے توجہ، دھیان اور اعتماد سے پڑھے، ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے اور مشکلات میں کمی واقع ہوئی حتیٰ کہ اُن کی تمام پریشانیاں حل ہو گئیں، سرگودھا میں ایک صاحب ملے، کہنے لگے مجھ پر جنات کا اثر تھا، میں نے آپ سے ٹیلی فون پر مشورہ کیا، آپ نے دو انمول خزانے پڑھنے کو بتائے تھے میں نے پڑھنے شروع کر دیئے، اب صورت حال یہ ہے، پہلے جنات میرے سامنے آتے تھے تندرست اور بھاگتے دوڑتے ہوئے،

اب جب بھی میرے سامنے آتے ہیں تو لولے لنگڑے اور اپاہج آتے ہیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ لگتا یہ ہے۔ کہ آپ اُسے تھوڑی مقدار میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں دو انمول خزانے ایک خاص ترکیب سے پڑھنے کو عرض کیے۔

(اُس خاص ترکیب کا تذکرہ، صفحہ نمبر ۶۴ پر ملاحظہ فرمائیں۔)

☆ ایک خاتون نے اپنی آپ بیتی بیان کی کہ مجھ پر بچپن سے ایک جن کا قبضہ ہے میں نے کسی کے بتانے پر دو انمول خزانے پڑھنے شروع کر دیئے جب سے میں نے وظائف پڑھنے شروع کیے، وہ جن سامنے آ گیا اور مجھے اِن ظائف کو پڑھنے سے روکنے لگا اور مجھے تکلیف دی، لہٰذا میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں نے ان خاتون سے عرض

کیا کہ اس جن کا علاج یہی ہے کہ آخر اُسے تکلیف پہنچی ہے تو اس نے پڑھنے سے منع کیا ہے لہٰذا اس کا پڑھنا نہیں چھوڑنا اور انہیں پڑھنے کی خاص ترکیب عرض کی۔

☆ میرے ایک محسن نے اپنے تجربات بیان کئے کہ میں نے جہاں اُس کے اور فائدے دیکھے وہاں کا اس کا خاص فائدہ یہ دیکھا کہ جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان پریشانی اور اُلجھنیں رہتی تھی آپس کی نا اتفاقی سے گھر آتش کدہ تھا، میاں کا رُخ، مشرق کی طرف اور بیوی کا مغرب کی طرف، جب انہوں نے دو انمول خزانے پڑھنے شروع کئے ان کا گھر آتش کدہ سے راحت کدہ بن گیا ایسا ایک گھر کا نہیں بلکہ ایسے بے شمار گھروں کے مسائل حل ہوئے۔

☆ کراچی کے ایک صاحب نے اپنے بچے کے کُند ذہن ہونے کا شکوہ کیا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے روشن مستقبل کے لئے پُر اُمید تھے لیکن ان کا بیٹا مسلسل کوشش کے باوجود تعلیمی زندگی میں بہت پیچھے جا رہا تھا، میں نے انہیں انمول خزانہ نمبر۱، پڑھ کر میٹھی مصری پر دم کر کے کھلانے کا عرض کیا کہ روزانہ اس کو پڑھا جائے، ایسا تین چلہ تک (یعنی ۱۲۰ دن) کیا جائے، اُن صاحب نے ایسا کیا، بچے کی دماغی کمزوری ذہانت میں بدل گئی اور بچہ کُند ذہنی سے نکل کر، تیز ذہنی کی طرف رواں دواں ہوگیا۔

☆ ایک پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ اپنے بچوں کو یہ ہدایت رکھی ہے کہ اسمبلی کے بعد تمام بڑی کلاس کے بچے دو انمول خزانے پڑھیں اور پھر اپنے

تعلیمی سلیبس Syllabus شروع کریں، پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ میرا
عرصہ سے یہ معمول اور طریقہ ہے اور میں نے اس کا تجربہ
کیا ہے میرے اسکول کا تعلیمی پروگریس دیگر تمام
پرائیویٹ اسکولوں سے آگے ہے اور بچوں کے ذہنی
صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔

☆معمول کی ڈاک میں لالہ موسیٰ سے ایک ٹیچر
خاتون نے اپنی مشکلات لکھیں، میں نے انہیں دوانمول
خزانے پڑھنے کا مشورہ دیا، انہوں نے جوابی لفافے پہ اپنا
مکمل پتہ اور دس روپے کے ٹکٹ لگا کر مجھ سے دوانمول
خزانے مُفت منگوالئے اور پڑھنا شروع کردیا ان کا مسئلہ
دراصل یہ تھا کہ ان کے خاوند نے انہیں چھوڑ کر کسی اور
خاتون سے اپنا تعلق قائم کرلیا تھا حتیٰ کہ اُس خاتون کا گھر

اُجڑ گیا اور یہ خاتون شرافت اور عزت سے اپنا گھر بسانا
چاہتی تھیں، جب انہوں نے دوانمول خزانے کا تذکرہ
اسکول میں دیگر ٹیچر خواتین سے کیا تو ایک خاتون کہنے لگیں
کہ مجھے بھی میرے بھائی نے سعودی عرب سے ایک وظیفہ
بھیجا ہے جو کہ مشکلات میں بارہا آزمودہ اور تجربہ شدہ ہے،
دوسرے دن وہ خاتون وہ وظیفہ لائیں، جب دونوں کو ملایا
تو سعودی عرب سے بھیجا ہوا وہ وظیفہ بھی دوانمول خزانے
ہی تھا اس خاتون نے بتایا کہ اس وظیفے سے بے شمار لوگوں
کی مشکلات دور ہوگئیں اور سعودی عرب میں بے شمار لوگ
پڑھ رہے ہیں اُن سب نے یہ وظیفہ پاکستان سے منگوایا
تھا، جو خاص بات میرے بھائی نے مجھے کہی وہ یہ کہ جس
اعتماد اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اسی کے

بقدر فائدہ ہوگا جتنا اعتماد مضبوط ہوگا اتنا فائدہ جلدی ہوگا۔

☆جہانیاں ضلع خانیوال میں ایک صاحب جنہوں نے اپنا نام شکیل بتایا، ملے وہ دراصل دو انمول خزانے عرصہ دراز سے پڑھ رہے تھے، ان کے اندر صرف ملاقات کا شوق تھا ملتے ہی کہنے لگے کہ ان وظائف کی وجہ سے میری روحانی زندگی میں بہت انقلاب آیا ہے، نماز میں دھیان، ذکر میں توجہ، تقویٰ کا اہتمام اور اعمال میں روز بروز ترقی شروع ہوگئی، کہنے لگے کہ میں حیران ہوں یہ انقلابی چیز آپ کو کہاں سے ملی۔

☆ایک سفر کے دوران جھاوریاں ضلع سرگودھا میں ایک نہایت متقی، عمر رسیدہ بزرگ عالم ملے، دو انمول خزانے کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے میرا بیٹا سارا دن دین کا

کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پال رہا ہے، رزق مل رہا ہے، گھر چل رہا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں، تجھے کہاں سے ملتا ہے کہتا ہے جس توکل، اعتماد اور بھروسے سے ان وظائف کو میں پڑھتا ہوں اگر تم بھی پڑھنا شروع کردو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا پال کر دکھا دے گا۔

☆ایک جوان نے جو مستقل دو انمول خزانے پڑھتا تھا، بیان کیا کہ مجھے اپنی تعلیم کے لئے ڈنمارک جانا ہوا، میں نے اس بات کا تجربہ کیا کہ جب بھی میرا انٹرویو یا کوئی ایسا امتحان کہ جس میں بالمشافہ سوالات کی نشست ہوئی تو اس میں مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئی، دلی تسلی، اطمینان اور خوب بھروسہ رہا، بلکہ میں نے نہایت بھروسہ اور اعتماد سے سوالات کے جوابات دیئے اور کامیاب ہوگیا۔

☆ایک اور صاحب نے بیان کیا کہ یہ میرا معمول ہے کہ جب بھی مجھے کسی کے ہاں ضرورت پیش آتی ہے اپنے سے بڑے کام ہوتا ہے تو میں یہ وظیفہ پڑھتا جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے میرا کام بنا دیتے ہیں۔

☆یہ بات تو بے شمار لوگوں نے بیان کی ہے کہ دو انمول خزانے کی مقبولیت ہم نے ہسپتالوں میں دیکھی اور مریضوں کو اور مریضوں کے لواحقین کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور تجربہ شاہد ہے کہ جن مریضوں نے اسے اہتمام سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے جلد سے جلد انہیں شفاء عطا کردی۔

بہاولپور سینٹرل جیل میں ایک قیدی کے لئے میں نے دو انمول خزانے بھیجے کچھ عرصہ کے بعد اس کا خط

موصول ہوا کہ مجھے اور بھیجیں میں نے ایک بہت بڑا بنڈل کسی خاص ذریعے سے بھجوادیا، بات آئی گئی ہوگئی لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد چند خطوط ملے اور ایک صاحب بالمشافہ ملے اور انہوں نے جو بات بتائی میں خود بھی حیران ہوا، کہنے لگے، طویل قید کے دوران مجھے پاکستان کی تین جیلوں میں رہنے کا موقع ملا، میں جہاں بھی گیا وہاں دوانمول خزانے پڑھے جارہے تھے، حتیٰ کہ ڈیوٹی پر موجود پولیس والے جیل کے افسران بھی دوانمول خزانے پڑھ رہے تھے۔

☆دوانمول خزانے میں ایک بات جو سب سے زیادہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس وظیفے کو خواتین نے بہت ہی زیادہ پڑھا ہے اور پڑھ رہی ہیں، خواتین نے اس کے

جوفوائد، واقعات اور مشاہدات بیان کیے ہیں ان میں سے
صرف دو (۲) واقعات بیان کرتا ہوں۔

☆ایک خاتون نے بتایا کہ میں عرصہ دراز سے
بیمار اور لاچار رہنے لگی، علاج معالجے بہت کرائے لیکن
افاقہ نہ ہوا کسی نے شک میں ڈال دیا کہ آپ پر جادو کیا ہوا
ہے میں جادو کو زیادہ مانتی نہیں تھی کہیں سے دو انمول
خزانے مل گئے میں نے ان کو کثرت سے پڑھنا شروع
کردیا، پورے گیارہ ماہ پڑھے حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ
وہ لوگ جنہوں نے مجھ پر جادو کیا تھا انہوں نے اعتراف کیا
کہ ہم نے واقعی آپ پر جادو کیا تھا، لیکن جو آپ نے ہم پر کیا وہ
ہمارے جادو سے کہیں بڑا جادو تھا، میں نے اُن سے عرض کیا
کہ میں نے تو آپ پر کوئی جادو نہیں کیا بلکہ میں نے دو انمول

خزانے پڑھے، یہ ان دو انمول خزانوں کی برکت ہے کہ آپ کا
جادو آپ پر اُلٹا پڑ گیا۔

☆ایک خاتون نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ بعض
اوقات میرے گھر کی چیزیں اُلٹ پلٹ جاتی تھیں، یعنی
رکھتی کہاں اور ملتی کہیں اور سے تھی اور بعض اوقات کپڑوں
کی پیٹی میں آگ لگ جاتی تھی، بستروں میں آگ لگ
جاتی تھی، میں نے دو انمول خزانے کثرت سے پڑھنا
شروع کردیئے بلکہ گھر کے تمام افراد نے پڑھ پڑھ کر کمروں
میں پھونکا اور انہیں پڑھ کر پانی پر دم کیا اور اُس پانی کو گھروں
کی دیوار پر چھڑکا، ایسا کرنے سے تمام مسائل حل ہو گئے اور
جنات کی کارستانیاں ختم ہو گئیں۔

☆☆☆

دوانمول خزانے کی خاص ترکیب

قارئین! اگر آپ دوانمول خزانے سے زیادہ نفع لینا چاہتے ہیں تو اوّل آخر درود شریف گیارہ، گیارہ بار اور انمول خزانے نمبر ا، اکیس بار صبح وشام یا دن میں صرف ایک بار کسی بھی وقت اکیس بار پڑھیں انمول خزانہ نمبر ۲ کم ازکم ۳۱۳ بار اور زیادہ سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں نہایت کثرت سے پڑھیں۔

☆ ایک صاحب نے شکوہ کیا کہ ان کا پڑوسی انہیں تنگ کرتا ہے اور ناجائز طریقے سے ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے۔ انہیں دوانمول خزانے پڑھنے کو دیئے گئے کچھ عرصے کے بعد ملے اور کہنے لگے کہ پڑوسی کی

بدزبانی ختم ہوگئی ہے اور وہ اب مُجھ سے ملنے میں محبت سے پیش آنے لگا ہے۔

☆ میرے ایک ملنے والے موٹر بیٹری کا کاروبار کرتے تھے گھر کے اِفراد کا بوجھ زیادہ آمدنی کم، باوجود کفایت شعاری کے مسائل روز بروز بڑھتے جارہے تھے۔ انہیں حالات میں وہ طرح طرح کے وظائف اور تعویذ استعمال کررہے تھے کوئی اُن پر جادو بتاتا کوئی تعویذ، کوئی جنات کی کارستانی بتاتا، آخر وہ ملے تو میں نے انہیں دوانمول خزانے پڑھنے کو عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ان کے حالات بہتر ہوگئے۔

میرے پاس جہاں جسمانی مریض آتے ہیں وہاں روحانی مریض بھی بہت آتے ہیں، دم تعویذ وغیرہ

کے لئے میرا تجربہ ہے جب بھی میں نے ایسے مریضوں کو
دوانمول خزانے پڑھنے کو دیئے اور انہوں نے نہایت توجہ
سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے نہایت کرم فرمایا کیونکہ سالہا سال
سے یہ تجربہ کرر ہاہوں کہ اس وظیفے کی برکت سے میں نے
کئی اُجڑے ہوئے گھر بستے دیکھے اور برباد لوگوں کو آباد
ہوتے دیکھا۔

☆میرے پاس روحانی علاج کے لئے ایک ایم
این اے صاحب آئے میں نے انہیں دم کیا کچھ تعویذ
دیئے لیکن ساتھ ہی دو انمول خزانے پڑھنے کو باقاعدگی
سے عرض کیا موصوف چونکہ پریشان تھے اور ہر طرف سے
ٹھکرائے ہوئے تھے انہوں نے میری بات کو توجہ سے لیا
اور پڑھنا شروع کردیا حالات روز بروز بہتر ہوتے چلے

گئے۔

☆ایک میجر کی اس کے کرنل سے کسی بات پر
تکرار ہوگئی بات بڑھتی گئی میجر کو اپنی نوکری کا خطرہ ہوگیا
مجھے ملا میں نے انمول خزانہ نمبر۲ کثرت سے پڑھنے کو عرض
کیا اس نے نہایت توجہ اعتماد اور دھیان سے پڑھا معاملہ
حل ہوگیا اور کیس میجر کے حق میں ہوگیا۔

☆حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت
برکاتہم العالیہ کے ایک شاگرد نے جو امریکہ سے پاکستان
دینی تعلیم کے لئے آئے ہوئے تھے، دوران ملاقات پوچھا
کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے سابقہ زندگی کی
کمزوریاں بھی ختم ہوں اور مزید دینی زندگی میں آسانی اور
برکت ہو، تو میں نے دوانمول خزانے میں سے صرف ایک

اِسم پڑھنے کو عرض کیا تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد رحیم یار
خان میں ملے حالانکہ میں بھول گیا تھا خود بتانے لگے کہ وہ
آپ کا بتایا ہوا اسم جس کی آپ نے اجازت دی تھی میں
نے پڑھنا شروع کیا تو میرے ساتھ حیرت انگیز حالات
شروع ہوگئے اور مجھے محسوس ہونا شروع ہوگیا کہ فلاں شخص
گفتگو کے دوران جھوٹ بول رہا ہے اور یہ شخص ابھی گناہ
کرکے آیا ہے، نماز میں نور اور کیفیات وغیرہ شروع
ہوگئیں پھر میں نے پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں مجھے مسلمانوں
کی کمی کوتاہی پر حقارت نہ آجائے۔ میں نے انہیں اس کو
پڑھتے رہنے کا مشورہ دیا اور اس کی ایک اور ترکیب عرض
کی جس سے بیرونی کیفیات تو ظاہر نہ ہوتیں لیکن باطن
خوب روشن اور چمک دار ہوجاتا۔

خزانہ نمبر (۲) کی برکت کی تحیّر خیز واقعہ

☆ ایک صالح شخص نے بیان کیا کہ اس نے ایک شخص
سے رقم اُدھار لی وہ رقم باوجود کوشش کے ادا نہ ہوسکی اور
سود کا بوجھ بڑھتا رہا اور روز بروز اضافہ ہوتا رہا، ہوتے
ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ گھر فروخت ہوگیا، ہم
نے خزانہ نمبر۲ کو سوا لاکھ مرتبہ گھر کے تمام افراد نے مِل کر
پڑھا اور کچھ فائدہ ہوا مزید سوا لاکھ دفعہ پڑھا کُل ہم نے
سات بار پڑھا جتنا زیادہ پڑھتے گئے مسائل سُلجھتے گئے
اور ہماری مشکلات حل ہوتی گئیں، ہم حیران تھے کہ یہ
مصیبت کیسے ٹل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل حل
کردیئے۔

☆ ایک گھرانہ رشتوں کے نہ ہونے میں اُلجھا ہوا تھا بہت زیادہ کوشش کی لیکن فائدہ نہ ہوا تمام گھر والوں نے مل کر یہ سوالاکھ مرتبہ پڑھا (واضح رہے کہ پڑھنے والے مخلص اور ہمدرد ہوں جن میں خلوص، توجہ دھیان اور پاکیزگی ہو، یہ چیز ایسے لوگوں میں نہیں ہوسکتی جن کو بعد میں کچھ رقم یا کھانے پینے کی چیزیں ملنے کی غرض ہو اور نہ ہی اس سے کچھ فائدہ ہوگا کیونکہ اصل نفع خلوص اور لِلّٰہیت میں ہے) ابھی انہوں نے سوالاکھ کے پانچ نصاب ہی پڑھے تھے کہ ان کے رشتوں کے مسائل حل ہوگئے۔

☆ اسی طرح ایک صاحب دوبئی العین میں رہتے تھے انہوں نے ملازمت کے لئے بہت کوشش کی لیکن مسئلہ حل نہ ہوا بہت زیادہ مقروض ہوتے گئے تمام دوست احباب

ساتھ چھوڑ گئے کسی قسم کی ترقی نہیں ہورہی تھی جب سے انہوں نے انمول خزانہ نمبر۲ کو پڑھنا شروع کیا، صرف تین ہی نصاب پورے کئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے ان کے لئے برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیئے۔

قارئین کرام! تین نصاب، پانچ یا زیادہ سے زیادہ سات نصاب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی مشکلات حل فرمادیتے ہیں کچھ وقت اور مجاہدہ تو ہوتا ہے لیکن تمام زندگی کے لئے مسائل حل ہوجاتے ہیں۔

دو انمول خزانے کے چار مقبول عمل

بارہا کے تجربات اور لاکھوں لوگوں کے مشاہدات کے بعد یہ چار مقبول اعمال نہایت زود اثر، روحانی خزائن سے معمور ایک شاہکار، آفت رسیدہ اور جان بلب مریضوں کے لئے پیغامِ شفا، ہر بے روزگار اور تنگ دست فقیروں کے لئے رحمت الٰہی، جنات سے متاثر اور جادو کے ماروں کے لئے مستند علاج، اسم اعظم کے متلاشیوں کے لئے عجیب موتی، قید سے رہائی کے لئے اُمید افزاء بہار، دربدر کی ٹھوکریں کھانے والے عاجز درد ماندہ بندوں کے لئے مرہم، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہو یا مشکل سے مشکل چٹان ہو ان سب کے لئے خوشخبری ہے۔

پہلا عمل:

جتنا بھی وظیفہ پڑھا جائے وہ تمام پانی پر دم کر کے اس پانی کو جادو، جنات، نظر بد اور نافرمان اولاد کو پلایا جائے یا چینی پر دم کر کے کسی بھی شکل میں گھول کر پلائی جائے دودھ یا پانی وغیرہ میں، اسی طرح گھریلو جھگڑے میں بھی پلا سکتے ہیں، پڑھ کر دم کریں اور اپنے مکان کے چاروں طرف سے حفاظت اور حصار کا تصوّر کر کے پھونک ماریں۔

دوسرا عمل:

زعفران خالص کسی بھی جڑی بوٹیوں کی دوکان سے لے کر عرقِ گلاب میں بھگو دیں یہ ایک طرح سے

روشنائی بن جائیگی اس سے دوانمول خزانے، نمبر۱اور انمول
خزانے نمبر۲، پانچ بار، سات بار اکیس بار لکھیں! پھر اُسے
دھو کر مریض، نافرمان اولاد، آپس کی ناچاقی، گھریلو جھگڑوں
، نظرِ بد، جادو جنّات کے لئے پلانا نہایت زود اثر ہے اور
حیرت انگیز طریقے سے اس کا اثر مانا ہوا ہے اور بے شمار
لوگوں کے معمولات میں سے ہے۔

تیسرا عمل:

اس کتابچے کو تقسیم کرنے سے بھی مشکلات
پریشانیاں اور جسمانی روحانی گھریلو مسائل حل ہوتے ہیں
کیونکہ جتنے لوگ پڑھیں گے اتنا اس شخص کا صدقہ جاریہ
ہوگا اور نامعلوم کوئی شخص ایسی زاری اور یقین سے پڑھے

کہ اس کا عمل قبول ہو اور جو شخص اس تک پہنچانے کا ذریعہ
بنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پڑھا عمل قبول فرما کر اس کی تکلیفیں
چاہے روحانی ہوں یا جسمانی، دور کردے یہ طریقہ ویسے
بھی ایک مسنون عمل کو عام کرنے کا ذریعہ ہے اور مسنون
عمل کو عام کرنا خود ایک عظیم اجر کا کام ہے اس کی تعداد
مختلف ہے، ۳۱۳عدد، ۷۸۶عدد، ۱۱۰۰عدد، ۲۱۰۰عدد،
۳۳۰۰عدد، (اس تعداد سے زیادہ بھی کرسکتے ہیں) اِسے
لے کر ہسپتالوں، جیلوں، ریل گاڑیوں، بڑی دوکانوں سُپر
اسٹوروں اور نمازِ جمعہ کے بعد بڑی مساجد کے نمازیوں
میں تقسیم کریں، واضح رہے کہ اس کو احتیاط اور قدر و اکرام
سے تقسیم کریں کہ کہیں اس کی بے قدری نہ ہو۔ اس کتابچے کو
چھوٹے بڑے شہروں میں تقسیم کرسکتے ہیں اور ایسی جگہوں پر

پہنچانے سے فائدہ زیادہ ہوگا جہاں لوگوں کو یہ میسّر نہیں۔
اس کو خود چھپوا سکتے ہیں ورنہ الفلاح بلڈنگ لاہور کا پتہ
کتابچے پر درج ہے وہاں سے لاگت یعنی بغیر نفع کے چھپے
چھپائے مل سکتے ہیں، واضح رہے کہ خود چھپواتے ہوئے اس
میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں۔

چوتھا عمل:

انمول خزانہ نمبر ا، صرف ایک بار اور خزانہ نمبر ۲
سات بار یا اکیس بار کالی یا نیلی روشنائی والے قلم سے نمازِ
فجر کے بعد لکھ کر روٹی کے برابر آٹا گوندھ کر اس میں لپیٹ
کر کسی دریا، نہر، چشمہ، کنواں، بڑا تالاب یا سمندر میں
ڈال دیں لکھتے ہوئے ایسے لکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو

درخواست لکھ رہے ہیں اور اپنے تمام مسائل مشکلات کو
ذہن میں رکھ کر لکھیں اور ڈالتے ہوئے اپنی جو بھی مشکل ہو
ذہن میں رکھ کر ڈالیں، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے دریائے نیل
میں خط لکھ کر ڈلوایا تھا، یہ کل سات یوم، اکیس یوم، چالیس یوم
لکھ کر بلاناغہ ڈالیں ناغہ ہوجائے تو پھر سے یہ عمل شروع
کریں، یہ عمل مشکلات پریشانیوں اور تمام قسم کے مسائل کے
لئے آزمودہ راز ہے، ایک اہم بات یاد رکھیں کہ جب کوئی
وظیفہ شروع کریں تو مستقل مزاجی اور پابندی ضروری ہے۔
ایک چھوڑ کر دوسرا اور دوسرا چھوڑ کر تیسرا کرنا کبھی بھی نفع مند
ثابت نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوتا دیکھا ہے۔ کثرت سے
درود پڑھنے والے کیلئے دنیا و آخرت کے تمام فکروں سے

کفایت خود اللہ جلّ شانہٗ فرماتے ہیں۔ ایک مختصر لیکن بہت
جامع درود، جسے اپنے خصوصی وعمومی احباب کی خدمت میں
عرض کرتا رہتا ہوں:

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

درود ہذا کے متعلق: امام عبدالوہاب شعرانیؒ نے
بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے یہ
درود پڑھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ستّر دروازے
اپنی ذات پر کھول لئے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے
دلوں میں ڈال دیتا ہے، پس اس شخص سے وہی آدمی بغض
رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا، امام شعرانیؒ فرماتے
ہیں کہ ہمارے شیخ سیّدی علی خواصؒ نے فرمایا کہ اس حدیث

سے پہلے حضور نبی کریم ﷺ کا وہ ارشادِ گرامی بھی ہے جس
میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے میرے سب سے
زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے جب بھی میرا ذکر کیا تو مجھ پر
درود پڑھا۔
(بحوالہ شیخ محمد یوسف بن اسماعیل نبھانی "افضل الصلوٰۃ علیٰ
سیّد السادات" (عربی) مطبوعہ بیروت ۱۳۰۹ھ صفحہ ۲۳۷)

☆☆☆

استدعا:۔ انسانی طاقت اور بساط میں جو کچھ ہے اس
کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہماری کمپنی نے
ہر ممکن کوشش کی ہے کہ نسخۂ ہذا میں کسی قسم کی کوئی ں نہ رہ
جائے پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے اگر دورانِ تلاوت کوئی
غلطی نظر آئے تو برائے کرم ہمیں اطلاع کریں تاکہ آئندہ
اشاعت میں اس کی تصحیح کی جاسکے۔۔۔(ادارہ)

جزاك الله (ناشر)

یہ انمول وظیفہ

☆روزگار کی مشکلات ☆ترقی میں رکاوٹ
☆گھریلو ناچاقی ☆اولاد کی نافرمانی
☆جادو اور جنات کے اثرات
☆کاروبار میں رکاوٹ
☆نظرِبد کے اثرات
☆حاسدین اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لئے
☆روحانی ترقی لاعلاج مریضوں کے لیے بہت آزمودہ ہے۔